

دین کامل اور اختلاف: روح المعانی کی روشنی میں ایک تحقیقی جائزہ

Essence of the dissension in Religion: A Research Analysis in the light of Tafsīr Rūḥ al Ma'ānī

Raheem Uddin

Ph.D Research Scholar, Department of Islamic Studies
 University of Malakand

Dr. Badshah Rehman

Assistant Professor, Department of Islamic Studies
 University of Malakand

Abstract

The word "Ikhtilaf" refers to such an approach and way of conversation in which one scholar disagrees with another scholar. Islam being a perfect religion bars its followers from developing mutual conflicts. Islam has clearly stated that Muslim Ummah should not have differences on the basis of opinions in vivid injunctions. Such dissension has been placed nowhere in Islam. Disputes may only arise in case of secondary and vague injunctions. In such situations, each jurist considers himself as right. Such divergence, in the secondary issues based on argumentation and within the ambit of Qur'an and Hadith, is not contemptible one but is the source of blessings due to the depth of knowledge of the jurists. Because of such conflicting opinions, jurisprudence and religious injunctions have the power of adaptability in accordance with the demands of the changing times. In the matters of jurisprudence, establishing consensus on the basis of argumentation must not lead to sectarianism, prejudice and hatred. True jurists have tried their level best to protect Muslim Ummah from sectarian disputes. Among such jurists we have Allama Alusī, the author of Tafsīr Rūḥ al Ma'ānī, as one big contributor. Tafsīr Rūḥ al Ma'ānī is the solid proof of his authentic and deep knowledge. It has a combination of reported sayings and exegesis of consents.

KeyWords: Dissension, Tafsīr Rūḥ al Ma'ānī, Injunctions, Intra-faith Dialogue

تعارف:

دین اسلام کی تعلیمات اور اس کے خصائص کی کاملیت ہمیں اختلاف سے بچنے کا درس دیتی ہے۔ امت مسلمہ کا قطعی اور واضح احکام میں اختلاف نہیں ہے۔ بلاشبہ اس طرح کا اختلاف رکھنے والا ملت اسلامیہ کافر دہی نہیں رہتا۔ مگر ایسے احکام جو فروری

دین کامل اور اختلاف: روح المعانی کی روشنی میں ایک تحقیقی جائزہ

اور مبہم ہیں۔ اُن میں اختلاف علم و فہم کے تفاوت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس طرح کے اختلافات نصوص شرعیہ کے ابہام کی وضاحت کے سلسلے میں اجتہاد کا نتیجہ ہیں۔ دین اسلام میں ایسے اختلافات کی گنجائش اصول اجتہاد کی وجہ سے پائی جاتی ہے۔

اس سلسلے میں اہل رائے اپنی رائے کو حرف آخر قرار نہیں دیتے۔ جیسا کہ اس کی وضاحت امام شافعی کے اس قول سے ہوتی ہے: میری رائے صحیح ہے اگرچہ غلطی کا امکان رکھتی ہے اور دوسرے کی رائے غلط ہے اگرچہ اس کے صحیح ہونے کا احتمال ہے¹۔ چنانچہ وہ اختلاف جو اجتہادی ہو اور قرآن و حدیث کے متعین کردہ حدود کے اندر ہو قابل نفرت نہیں۔ بلکہ مجتہدین علماء کے تبحر علمی کی وجہ سے وسعت اور رحمت کا باعث ہے۔ اس لیے کہ اجتہاد کی وجہ سے شرعی احکام ہر زمانے کے تقاضوں کے ساتھ موافقت اختیار کر لیتے ہیں۔ اور اس اختلاف کے نتیجہ میں شرعی امور مختلف پہلوؤں میں تحقیق اور ترقی حاصل کرتے ہیں۔

علامہ آلوسی نے اس اختلاف کی وضاحت کچھ یوں کی ہے: اس اختلاف سے صحابہ کرام اور اُن لوگوں کا اختلاف مراد ہے جو ان کے ساتھ اجتہاد میں شریک ہیں جیسے وہ مجتہدین جن کا اجتہاد قابل اعتبار ہے جو علمائے دین ہیں مبتدعین نہیں ہیں۔ وہ لوگ جو ان مجتہدین کے درجہ تک نہیں پہنچ سکے ہیں، ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ دو مینڈھے ایک دوسرے کو اپنے سینگوں سے ماریں اور نہ ہی دو آدمی اس میں باہمی نزاع کریں۔²

صحابہ کرام کے اختلاف کے بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے دین کے احکام میں اختلاف ضرور کیا ہے لیکن ان کا یہ اختلاف ان کے باہمی افتراق اور گروہ بندی کا سبب نہیں بنا³۔ البتہ شریعت کے واضح احکام میں اختلاف افتراق اور فرقہ بندی ہے۔ جب کہ اجتہادی امور میں دلیل کی بنیاد پر رائے کا اختلاف فرقہ بندی نہیں ہے۔ لہذا ایسے اختلافات کم فہمی اور تعصب کی وجہ سے فرقہ واریت اور نفرت کا باعث نہیں ہونے چاہیے۔ ایسے اختلافات سے غیر متعصب علماء نے امت مسلمہ کو بچانے کی خوب کوشش کی ہے جو افتراق کا باعث ہوں۔ چونکہ ایسے علماء میں ایک نمایاں حیثیت کے حامل عالم دین تفسیر روح المعانی کے مصنف علامہ شہاب الدین محمود بن عبد اللہ حسین آلوسیؒ کی ہے۔ لہذا اس مختصر مقالہ میں دین کامل کی تعلیمات، خصائص اور اس میں واقع اختلاف پر روح المعانی کی روشنی میں بحث کی گئی ہے۔

علامہ آلوسی اور اُن کی تفسیر "روح المعانی" کا مختصر تعارف:

علامہ آلوسی بغداد میں 1217ھ کو پیدا ہوئے⁴۔ آپ کے تصانیف کی تعداد 21 تک ہے جن میں "روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی" کو زیادہ شہرت حاصل ہوئی⁵۔ علامہ آلوسی بیک وقت مفسر، محدث اور فقیہ تھے۔ یہ تفسیر آپ کے تبحر علمی کا واضح ثبوت ہے۔ یہ تفسیر نقلی روایات اور تفسیر بالرأے کا جامع ہے۔ مختلف تفاسیر اور علوم کو مد نظر رکھ کر علامہ آلوسی نے یہ تفسیر لکھی ہے۔ تفسیر روح المعانی کے بارے میں محمد عبدالعظیم زرقاتیؒ لکھتے ہیں: تفسیر روح المعانی کا شمار بلند پایہ، ضخیم ترین اور جامع ترین تفاسیر میں ہوتا ہے۔ جس میں اُنہوں نے سلف صالحین کی روایات کے ساتھ ساتھ متاخرین کے مقبول اقوال بھی جمع کیے ہیں⁶۔

ابوالبرکات نعمان بن محمود روح المعانی کے بارے میں لکھتے ہیں: روح المعانی دس ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ ایسی تفسیر ہے جس کی مثال ملنا مشکل ہے⁷۔ صاحب "بَيْئَةُ الْبَيَانِ فِي شَيْءٍ مِنْ عُلُومِ الْفُرَّانِ" روح المعانی کے بارے میں لکھتے ہیں: مواد کی کثرت، واضح تعبیرات اور تحریر کی عمدگی میں مذکورہ تفسیر علامہ ابن حجر کی "فتح الباری" کے مانند ہے⁸۔

آیات قرآنیہ کی تفسیر و تشریح کے سلسلے میں عبارات اور اشارات سے استفادہ کرتے ہیں۔ آیات کونیہ کی وضاحت عصری علوم کے ذریعے سے کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ قرآن و احادیث اور عصری علوم کے درمیان مطابقت پیدا ہو۔ غیر مستند روایات و حکایات کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ تحقیق کے بغیر رائے قائم نہیں کرتے۔ البتہ مختلف آراء و نظریات نقل کر کے غلط آراء و نظریات کی ابطال کرتے ہیں۔

مفتدین کی تفاسیر سے عبارات پیش کر کے ان کا نادرانہ جائزہ بھی لیتے ہیں۔ آپ مختلف آیات اور جملوں کا باہمی تعلق اور شان نزول بیان کرتے ہیں۔ جن مقامات پر انہوں نے ضرورت محسوس کی مفردات کی لغوی تحقیق کر کے کلام عرب سے استشاد کرتے ہیں۔ تفسیر میں اکثر نحوی صرعی مسائل سے بحث کرتے ہیں۔ اصل تفسیر کے علاوہ صوفیانہ معانی پر بھی اظہار خیال کرتے ہیں۔ اختلافی فقہی مسائل میں دلائل کے بیان میں غیر متعصب رہتے ہیں۔

دین کے لغوی اور اصطلاحی معنی:

امام راغبؒ نے "الدین" کے معنی اطاعت، جزاء، اور شریعت کے ذکر کیے ہیں۔ اور وضاحت کی ہے کہ الدین ملت کا مترادف ہے لیکن یہ شریعت کی پابندی کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے⁹۔ امام بخاری نے "باب ما جاء فی الفاتحہ" میں "الدین" کی وضاحت میں فرمایا ہے: "الدِّينُ الْجِزَاءُ فِي الْحَبْرِ وَالسَّنَنَةِ"¹⁰ یعنی دین سے مراد بدلہ ہے چاہے بھلائی کا ہو یا برائی کا۔

شیخ احمد دیداد دین کی اصطلاحی معنی کے بارے میں فرماتے ہیں: دین سے مراد جامع نظام زندگی اور کامل نظام حیات ہے۔ اس طرح دین ہماری پوری زندگی پر محیط ہے۔ اس میں تمام شعبہ ہائے زندگی، عقائد، عبادات، اخلاقی معاشرت، معیشت، اور سیاسی امور شامل ہیں¹¹۔

اختلاف کے لغوی اور اصطلاحی معنی:

اختلاف باب افتعال سے ہے اور اس کا معنی ہے گفتگو یا معاملہ میں ایسا اسلوب اختیار کرنا جو دوسروں کا نہ ہو۔ چونکہ اس سے عموماً جھگڑا پیدا ہوتا ہے اس لئے اختلاف نزاع کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا¹²۔

محمد عظیم احسان اختلاف کے اصطلاحی معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دو فریقوں کے مابین حق کے اثبات اور باطل کے ابطال کے لیے جو مباحثہ ہو، اختلاف کہلاتا ہے¹³۔

امام راغب اصفہانی نے اختلاف کی تعریف کچھ یوں کی ہے

"أَنْ يَأْخُذَ كُلُّ وَاحِدٍ طَرِيقًا غَيْرَ طَرِيقِ الْآخَرِ فِي حَالِهِ أَوْ قَوْلِهِ"¹⁴

"کہ ہر کوئی ایسا راستہ اختیار کرے جو کردار کے لحاظ سے یا گفتار کے لحاظ سے دوسرے کا نہ ہو۔"

دین کامل کے نمایاں خصائص:

۱: اسلامی بھائی چارہ: دین اسلام کی تعلیمات اور اس کے کامل خصائص ہمیں باہمی اختلاف سے بچنے کا درس دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے عروج کا بنیادی نکتہ اتحاد و اتفاق رہا ہے۔ مسلمانوں کی ماضی کی عظمت رفتہ اس کا واضح ثبوت ہے۔ اس کے برعکس ان کے زوال کا سبب باہمی اختلاف ہے۔ رسول کریم ﷺ کی صحبت میں رہ کر تیس سال کے عرصے میں صحابہ کرامؓ دنیا کے لیے

دین کامل اور اختلاف: روح المعانی کی روشنی میں ایک تحقیقی جائزہ

وحدت کی مثال بن گئے۔ ہجرت مدینہ کے فوراً بعد آپ ﷺ نے اسلامی بھائی چارہ قائم فرمایا۔ اس طرح مسلمان تمام امتیازات سے آزاد ہو کر دین اسلام کے ذریعے بھائی بھائی بن گئے۔ قرآن کریم میں اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سے تعبیر کیا گیا ہے:

"وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ" ¹⁵

"اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رکھو، اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو ایک وقت تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اللہ نے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی۔ اس طرح اللہ تمہارے لئے اپنی نشانیاں کھول کھول کر واضح کرتا ہے، تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔"

اس کی تفسیر میں علامہ آلوسی فرماتے ہیں:

"اس نعمت میں سے (ایک اللہ تعالیٰ کی) ہدایت ہے اور اسلام کی توفیق ہے جو تمہاری باہمی محبت کا سبب بنا (اور جس کی وجہ سے تمہاری) دشمنیاں ختم ہو گئیں۔ ممکن ہے کہ اس سے مراد وہ حالت ہو جو اللہ تعالیٰ نے اس قول میں بیان فرمایا "إذ كنتم أعداء" یعنی جاہلیت میں "فألف بين قلوبكم" یعنی اسلام کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں محبت پیدا فرمائی۔" ¹⁶

"فأصبحتم بنعمته إخواناً" کی تفسیر میں علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

"اللہ تعالیٰ کی نعمت کے سبب حالت یہ ہو گئی کہ تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اخوان "اخ" کی جمع ہے۔ تحقیق کے مطابق "اخوان" کی جمع صداقت کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ ائقان میں ہے کہ نسبی بھائیوں کے لئے "اخوة" کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ابن فارس کہتے ہیں صداقت کے بھائیوں کے لئے "اخوان" کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن دوسرے لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے اور صداقت کے بھائیوں کے لئے (مثال) "انالمؤمنون اخوة" ¹⁷ پیش کی ہے، اور نسبی بھائیوں کی مثال: "أؤخوانهم أو بئى إخوانهم" ¹⁸ پیش کی ہے" اس سے معلوم ہوا کہ دونوں کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔" ¹⁹

علامہ آلوسی فرماتے ہیں:

"بعض کے نزدیک اس سے مراد اوس اور خزرج کی جنگیں ہیں جو 120 سال تک چلتی رہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد مشرکین عرب کی طویل جنگیں ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے ان کے درمیان محبت فرمائی (جس کی وجہ سے) ان کے باہمی کینے ختم ہو گئے۔" ²⁰

2: دعوت کی عمومیت: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام بنی نوع انسان کے لئے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ

ﷺ سے پہلے جننے بھی انبیاء آئے وہ ایک خاص جگہ، وقت اور قوم کے لئے بھیجے گئے تھے۔ ہر نبی کی دعوت صرف ایک خاص قوم اور علاقے تک محدود ہوتی جس کی تصریح سورۃ الاعراف آیت نمبر 84 اور 65 میں موجود ہے۔ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ

و سلم کی تعلیمات دنیا کی مہذب اور غیر مہذب اقوام کے لیے یکساں ہدایت ہیں۔ جس میں رنگ نسل اور جغرافیائی حدود اور وقت کی کوئی قید نہیں۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا"²¹ اور ہم نے تجھے تمام ہی لوگوں کے لئے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔"

علامہ آلوسی نے عبداللہ بن عباسؓ کی تفسیر نقل کی ہے: "إلى العرب والعجم وسائر الأمم"²² کہ آپ ﷺ عرب عجم اور تمام امتوں کی طرف بھیجے گئے۔ اسی طرح مجاہد فرماتے ہیں: تمام انسانوں کی طرف مبعوث ہوئے²³۔ چنانچہ آپ ﷺ کی زندگی ہی میں سیدنا بلال حبشی، سیدنا صہیب رومی، اور سیدنا سلمان فارسی کو صحبت کا شرف ملا۔ "وارسلت إلى الخلق كافة و ختم بی النبیین"²⁴ یعنی میں تمام لوگوں کے لئے بھیجا گیا ہوں اور مجھ پر انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ اختتام تک پہنچا۔"

نئے نبی اور دین کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے۔ جب نبی کی سیرت اور دین رد و بدل کا شکار ہوتا ہے۔ اور اس کے احکامات ناقابل عمل ہو جاتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم اس بات سے مبرا ہے کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے: "إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ"²⁵ بلاشبہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کو محفوظ رکھنے والے ہیں۔" چونکہ یہ قرآن کریم قیامت تک ناقابل تنسیخ ہدایت نامہ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت و بقاء کا خصوصی انتظام فرمایا۔ اور اسلام کے ذریعے انسانوں کی انفرادی، اجتماعی، معاشرتی روحانی اور معاشی غرض زندگی کی ہر پہلو سے متعلق راہنمائی کی ہے۔

علامہ آلوسی "بَيِّنَاتًا لِّكُلِّ شَيْءٍ"²⁶ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"يدخل فيه العقائد والقواعد بالدخول الأولى، وذلك مستمر إلى البعث وما بعده"²⁷

"اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے جس میں عقائد اور قوانین اول درجے میں شامل ہیں۔ جی اٹھنے اور اس کے بعد کے امور بھی شامل ہیں"

نبی کریم ﷺ نے ایک حدیث میں اس کی خوب وضاحت فرمائی ہے:

"قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك"²⁸

"میں تم کو ایک روشن راستہ پر چھوڑتا ہوں جس کی روشنی کا حال یہ ہے کہ اس کی رات بھی دن کے مانند ہے۔ اس سے نہیں ہٹے گا مگر ہلاک ہونے والا۔"

اس روشن راستے سے مراد شریعت کے عطاء کردہ اصول ہیں۔ پھر یہی بنیادی اصول ملحوظ رکھ کر ایک مجتہد یا جماعت

مجتہدین ان کی روشنی میں موجودہ اور آنے والے مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے:

"إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَنَبَهُ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَنَبَهُ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ"²⁹

"اگر حاکم نے درست اجتہاد کیا تو اس کے لیے دو اجر ہیں اور اگر غلط اجتہاد کیا تو اس کے لیے ایک اجر ہے۔"

۳: تعلیمات کی جامعیت:

اسلام کی تعلیمات تمام شعبہ ہائے زندگی پر محیط ہیں۔ بادشاہ، گدا، متوسط اور کمزور درجے کے حامل افراد سب کو ان کے فرائض اور حقوق سے باخبر رکھتی ہیں۔ یہ تعلیمات غم، خوشی اور اضطراب کی حالت میں انسانوں کی راہنمائی کرتی رہتی ہیں

دین کامل اور اختلاف: روح المعانی کی روشنی میں ایک تحقیقی جائزہ

اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر معاشرے کے غرباء اور دولت مندوں کے مابین اختلافات کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے نیک جذبات اور احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ جو بھی انسان اسلامی تعلیمات کے پیش کردہ نمونہ کے مطابق اپنے آپ کو سنوار دے۔ وہ معاشرے کے لئے فرشتہ رحمت بن جاتا ہے۔ اس لئے کہ اسلام کسی بھی انسان کے ساتھ غیر عادلانہ رویے کی ہر گز اجازت نہیں دیتا۔ دین اسلام نے دین و دنیا سے متعلق ہمہ جہت اصول عطا کئے ہیں۔ اور ان اصول کے ذریعے جزئیات اور فروعات کی تشکیل ہوئی۔ اور تا قیامت پیش آمدہ مسائل ان اصول کی روشنی میں حل ہوں گے۔

تفصیل بالا سے یہ واضح ہوا کہ دین اسلام نے قومیت کی بنیاد پر اختلاف ختم کر کے بھائی چارہ میں بدل دیا۔ مختلف قومیتوں کو صرف پہچان کا ذریعہ قرار دیا۔

لسانی اختلافات یعنی عربی یا عجمی ہونے کو فضیلت یا ذلت کا معیار نہیں ٹھہرایا۔ معاشرے میں موجود ادنیٰ سے ادنیٰ اور اعلیٰ سے اعلیٰ سب کے حقوق کا لحاظ رکھا۔ مساوات اور عدل و انصاف کی انتہا کر دی کہ خلیفہ وقت کو بھی عدالت میں کھڑا کیا۔ الغرض ہر قسم کا وہ اختلاف جو تعصب، افتراق اور دشمنی کا سبب تھا، دین اسلام نے اس کی حیثیت ختم کر دی۔

روح المعانی کی روشنی میں احکام دین میں اختلاف

قرآن و احادیث میں باہمی اختلاف سے بچنے کی سخت تاکیدات اور وعیدات آئی ہیں۔ اس بارے میں علامہ آلوسی نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ بنی اسرائیل کی ہلاکت کے اسباب زیادہ سوالات اور اپنے انبیاء کے بارے میں اختلافات ہیں³⁰۔ اور آپ ﷺ کا یہ ارشاد بھی نقل فرمایا ہے کہ تم اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دلوں میں کجروی آجائے گی۔³¹ علامہ آلوسی امام سبکی کے حوالے سے فرماتے ہیں:

"اگرچہ یہ حدیث صفوں کو سیدھا کرنے کے بارے میں وارد ہے لیکن الفاظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے نہ

کہ سبب (شان و رود) کی خصوصیات کا"³²

یہ وعیدات اور تاکیدات قطعی اور واضح احکام کے ساتھ خاص ہیں یا پھر ان اختلافات کے ساتھ جو افتراق کے باعث ہیں۔ البتہ ان اختلافات میں ایک قسم کے اختلاف کو استثناء حاصل ہے۔ اس کی وضاحت علامہ یوں فرماتے ہیں:

"فلا استثناء فی قوله سبحانه: إلا من رحم ربك متصل علی الأول وهو الذي اختاره أبو حیان وجماعة وعلی الثاني منقطع حیث لم یخرج من رحمة الله تعالی من المختلفین كأئمة أهل الحق فإنهم أيضا مختلفون فیما سوی أصول الدین من الفروع"³³

"اس لئے ایک قول کے مطابق" إلا من رحم ربك"³⁴ میں استثناء متصل ہے جو کہ ابو حیان اور ایک

جماعت نے اختیار کی ہے۔ جبکہ دوسرے قول کے مطابق منقطع ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت

سے اختلاف کرنے والے اہل حق خارج نہیں ہوں گے۔ کیونکہ وہ بھی اصول دین کے سوا فروعی مسائل

میں اختلاف کرتے ہیں۔"³⁵

دین اسلام میں جس اختلاف کا جو از ملتا ہے وہ حقیقت میں اس دین کو جوہر سے بچانے کا ایک راستہ ہے۔ وہ راستہ صرف مجتہدین علماء کے لئے کھلا ہوا ہے۔ وہ اجتہاد کا راستہ ہے۔ جس کی شرائط و آداب کو ملحوظ رکھ کر مجتہدین ایک دوسرے کے ساتھ دلائل کی بنیاد پر اختلاف کر سکتے ہیں۔

تفسیر روح المعانی کی روشنی میں اختلاف کے اقسام:

تفسیر روح المعانی میں اختلاف کی تین قسمیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک اصول (نظریات) میں اختلاف، دوم آراء کا اختلاف ہے۔ سوم فروع کا اختلاف ہے³⁶۔

اصول میں اختلاف:

اصول اصل کی جمع ہے اور اس کا لغوی معنی "بڑ" ہے³⁷ اصل لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس پر کسی دوسری چیز کی بنیاد ہو³⁸۔ امام راغب اصفہانی نے اس کی تعریف یوں کی ہے:

"أصل الشيء قاعدتها التي لو توهمت مرتفعة لارتفع بارتفاعه سائر ذلك" ³⁹

"کسی چیز کی اصل اس کی بنیاد کو کہتے ہیں کہ اگر اس کی نفی ہو جائے تو وہ چیز بالکل ختم ہو جائے گی۔"

یہاں پر اصول سے مراد دین اسلام کی تعلیمات کا پہلا بنیادی حصہ ہے۔ اصول دین مختصر مگر جامع، ہمہ گیر اور ابدی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی تصورات ہیں جو ذہن میں راسخ ہونے کے بعد انسان کو شوق و محبت کے ساتھ دیگر احکامات دین کا پابند بنا دیتے ہیں۔ اصول میں کوئی مجتہد رد و بدل کا مجاز نہیں ہے، ہاں فروع کے سلسلے میں اس سے راہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ کیونکہ اس میں ہر زمان و مکان میں انسانوں کی رہنمائی کے لئے روشنی موجود ہوتی ہے۔

دین اسلام میں اصول کے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں۔ امت مسلمہ کا بھی قطعی اور واضح احکام میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بلاشبہ اس طرح کا اختلاف رکھنے والا ملت اسلامیہ کا فرد ہی نہیں رہتا۔ امت محمدیہ ﷺ کو اصول کا بالکل پابند بنایا گیا ہے۔ تعلیمات اسلام کی رو سے اصول سب ادیان کے ایک رہے ہیں۔ سیدنا آدم سے لے کر محمد ﷺ تک انبیاء کرام آتے رہے اور ان پر وقت کے تقاضوں کے تحت نئے فروعی احکام نازل ہوتے رہے اور اصل دین ایک ہی رہا۔ لیکن مختلف ادوار میں مختلف ناموں سے موسوم ہوتا رہا۔ اس حقیقت کی طرف قرآن کریم نے ان الفاظ میں اشارہ فرمایا ہے:

"شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ" ⁴⁰

"اس نے دین میں تمہارے لئے وہی راہ مقرر کی جو نوح سے کہی تھی اور جو ہم نے حکم بھیجا تم کو اور جو کہہ دیا ہم نے ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ سے یہ کہ دین کو قائم کرو اس میں تفرقہ نہ ڈالو مشرکوں کو جدھر تو بلاتا ہے وہ ان پر گراں گزرتا ہے اور خدا اپنی طرف جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اور اپنی طرف اس کو راہ دیتا ہے (اس کی طرف) رجوع ہوتا ہے۔"

اس کی تفسیر میں علامہ آلوسی فرماتے ہیں:

"أن بيان نسبته إلى المذكورين عليهم الصلاة والسلام تنبيه على كونه دينا قديما أجمع عليه الرسل ، والخطاب لأمرته عليه الصلاة والسلام أي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ومن بعده من أرباب الشرائع وأولي العزم من مشاهير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأمرهم به أمرا مؤكدا ، وتخصيص المذكورين بالذكر لما أشير إليه من علو شأنهم وعظم شهرتهم ولاستتمالة قلوب الكفرة إلى الاتباع لاتفاق

دین کامل اور اختلاف: روح المعانی کی روشنی میں ایک تحقیقی جائزہ

کل علی نبوة بعضهم واختصاص اليهود بموسى عليه السلام والنصارى بعیسیٰ علیہ السلام والا فما من نبي إلا وهو مأمور بما أمروا به من إقامة دين الإسلام وهو التوحيد وما لا يختلف باختلاف الأمم وتبدل الأعصار من أصول الشرائع والأحكام"⁴¹

"اس دین کی نسبت تمام انبیاء کی طرف کی گئی یہ اس بات پر تنبیہ ہے کہ آپ ﷺ کا وہی سابقہ و قدیم دین ہے جس پر تمام انبیاء کا اتفاق رہا ہے اور خطاب دراصل آپ ﷺ کی امت سے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے لئے وہی دین مقرر فرمایا جس کا انہوں نے سیدنا نوح کو حکم فرمایا تھا۔ اور سیدنا نوح کے بعد ارباب شریعت اور اولو العزم مشہور انبیاء تھے سب کو یہی تاکیدی حکم ہوا تھا۔ یہاں پر عالی شان اور مشہور ہونے کی بناء پر بعض انبیاء کا خصوصی تذکرہ کیا گیا۔ اور آپ ﷺ کے اتباع کی طرف کافروں کے دل راغب کرنے کے لئے بعض انبیاء کا تذکرہ کیا گیا۔ چونکہ بعض انبیاء کی نبوت پر سب کا اتفاق رہا ہے۔ اور یہود نے سیدنا موسیٰ کو خصوصی طور پر نبی مانا۔ اور نصاریٰ نے سیدنا عیسیٰ کو خصوصی طور پر نبی مانا، ورنہ تمام انبیاء کرام کو دین اسلام کی اقامت کا حکم دیا گیا تھا اس سے مراد وہ امور ہیں جن پر تمام امتیں متفق رہی ہیں یعنی اصول شریعت اور احکام جو زمانے کی تبدیلی کے ساتھ بھی سب میں متفق رہے ہیں۔"

نبی کریم ﷺ نے اس طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا ہے:

"وَالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ لَأُمَّهَاتُهُمْ شَيْءٌ وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ"⁴²

"تمام انبیاء ایسے بھائی ہیں، جن کا باپ ایک ہے اور مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہے۔"

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں:

"ومعنى الحديث أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد وان اختلفت فروع الشرائع"⁴³

اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام کا اصل دین ایک ہے اور وہ توحید ہے اگرچہ ان کی شریعت میں فروع مختلف ہوں۔"

لیکن جن لوگوں نے اصول دین ہی میں اختلاف کیا تو ان کے لئے سخت سزا کی وعید ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

"اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے پاس کھلے کھلے دلائل آچکے تھے، اس کے بعد بھی انہوں نے آپس

میں پھوٹ ڈالی اور اختلاف میں پڑ گئے۔ ایسے لوگوں کو سخت سزا ہوگی"⁴⁴

یہ اختلاف کرنے والے کون لوگ تھے اس بارے میں علامہ آلوسی نے حسن اور ربیع کا قول نقل کیا ہے کہ ان سے مراد

یہود و نصاریٰ ہیں⁴⁵۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں علامہ آلوسی نے سیدنا انس کی یہ روایت نقل کی ہے:

"بنی اسرائیل اکہتر فرقوں میں بٹ گئے تھے (ان میں سے) ستر فرقے ہلاک (گمراہ) ہوئے اور ایک

فرقے نے فلاح پائی۔ بے شک میری امت ضرور بہتر فرقوں میں بٹ جائے گی۔ (ان میں سے) اکہتر

گروہ ہلاک (گمراہ) ہو جائیں گے باقی ایک ہی گروہ نجات پائے گا۔"⁴⁶

ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب آپ ﷺ سے پوچھا گیا: یا رسول اللہ! یہ نجات پانے والے کون لوگ ہیں؟ تو

آپ ﷺ نے فرمایا یہ الجماعت ہے ⁴⁷

دوم آراء اور جنگی تدبیروں میں اختلاف:

اولوالامر اور امور جنگ کے بارے میں اختلاف:

اولوالامر کون ہیں: یہاں پر اولوالامر کی وضاحت کی جاتی ہے:

اس بارے میں علامہ آلوسی فرماتے ہیں:

"واختلف في المراد بهم فقيل: أمراء المسلمين في عهد الرسول ﷺ وبعده ويندرج فيهم الخلفاء والسلاطين والقضاة وغيرهم" ⁴⁸

"اس بارے میں اختلاف ہے ایک قول کے مطابق اس سے آپ ﷺ کے دور میں یا ان کے بعد امراء مراد ہیں جس میں خلفاء، بادشاہ اور قاضی شامل ہیں"

جب کہ دوسرے قول کے مطابق اس سے اہل علم مراد ہیں۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں: کئی مفسرین نے ابن عباس، جابر بن عبد اللہ، مجاہد، حسن، عطاء اور ایک جماعت سے یہ (قول) نقل کیا ہے جبکہ ابو العالیہ نے اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے اس قول: "ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم" ⁴⁹ سے استدلال کیا ہے کہ احکام کے استنباط کرنے والے اور استخراج کرنے والے تو علماء ہی ہیں۔

علامہ آلوسی اولی الامر کے بارے میں مفسرین کے اقوال نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"وحمله كثير وليس ببعيد على ما يعم الجميع لتناول الاسم لهم لأن للأمراء تدبير أمر الجيش والقتال ، وللعلماء حفظ الشريعة وما يجوز مما لا يجوز" ⁵⁰

"اور بہت سے مفسرین نے اس کو عموم پر حمل کیا ہے کیونکہ یہ نام ان سب کو شامل ہے اور یہ بعید بھی نہیں کیونکہ امراء کے ذمے لشکروں اور جنگوں کی منصوبہ بندی ہے اور شریعت، جائز و ناجائز کی حفاظت کا ذمہ علماء کا ہے۔"

اولی الامر اور عام لوگوں کے مابین امور دین میں جھگڑا ہونے کی صورت میں آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"اس میں تمام مؤمنوں کو مطلقاً عام خطاب ہے اور "شعیء" ما بعد کی دلیل کی وجہ سے امور دین کے ساتھ مخصوص ہے پس معنی یہ ہے: اے ایمان والوں اگر تم اور تم میں سے اولی الامر کا امور دین میں سے کسی مسئلہ پر جھگڑا ہو تو اس معاملے میں رجوع اللہ کی طرف کرو یعنی اللہ کی کتاب کی طرف اور رسول کی طرف یعنی اس کی سنت کو۔" ⁵¹

البتہ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اولی الامر کی اطاعت غیر مشروط نہیں بلکہ اللہ اور رسول ﷺ کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے۔ امراء اگر شریعت کے مطابق احکام صادر کر رہے ہوں اور فقہاء شریعت کے موافق احکام بیان کر رہے ہوں تب ان کی اطاعت ہوگی۔ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں فرمایا:

"تم پر اگر ایک غلام بھی امیر مقرر کیا گیا ہو جو تمہاری قیادت اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق کر رہا ہو تو اس

کی بات سنو اور حکم بجالاؤ۔" 52

علامہ آلوسی فرماتے ہیں: ان (اولی الامر) کی اطاعت اس وقت تک واجب ہے جب تک وہ حق پر قائم ہو پس شرع کی مخالفت میں ان کی اطاعت واجب نہیں۔ 53

اس ضمن علامہ آلوسی نے ایک روایت نقل کی ہے:

"آپ ﷺ نے ایک سریہ روانہ فرمایا جس پر آپ ﷺ نے ایک انصاری کو امیر مقرر فرمایا اور اس کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے کا فرمایا، پس انہوں نے امیر کو کسی چیز کی وجہ سے غصہ کیا تو اس نے حکم دیا کہ اس کے لئے لکڑی جمع کرو سو انہوں نے لکڑیاں جمع کیں پھر آگ جلانے کا حکم دیا تو انہوں نے آگ جلائی۔ پھر کہنے لگے کیا آپ ﷺ نے تمہیں یہ حکم نہیں فرمایا تھا کہ تم میری بات سنو گے اور میری اطاعت کرو گے؟، تو انہوں نے عرض کیا: ہاں! کیوں نہیں، تو اس نے کہا کہ اس آگ میں داخل ہو جاؤ تو وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور کہا کہ ہم تو آگ سے بھاگتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کی طرف آئے ہیں۔ اس پر اس کا غصہ ختم ہوا اور آگ بجھادی گئی۔ جب سریہ والے آپ ﷺ کے پاس آئے تو آپ ﷺ کو یہ قصہ سنایا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر آگ میں داخل ہو جاتے تو کبھی بھی اس سے باہر نہ ہو جاتے اطاعت تو صرف معروف میں ہے۔" 54

آراء کے بارے میں اختلاف:

آراء کے اختلاف کے سلسلے میں علامہ آلوسی نے یہ حدیث نقل کی ہے:

"آپ ﷺ جب سیدنا ابو موسیٰ اور سیدنا معاذ کو یمن کی طرف بھیجنے لگے تو فرمایا: تم دونوں ایک دوسری کی بات مان لیا کرو اور ایک دوسرے سے اختلاف نہ کرو۔" 55

اس حدیث میں آپ ﷺ نے صحابہ کرام کو اختلاف سے بچنے کی تاکید کی ہے۔

غزوہ احد میں مسلمانوں کو رسول کریم ﷺ کے حکم کی منشاء کا فہم نہ ہونے کی وجہ سے باہمی اختلاف ہوا۔ اور اسی اختلاف کی وجہ سے مسلمانوں کو عزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ علامہ آلوسی فرماتے ہیں:

"جب تیر اندازوں نے دیکھا (مسلمان فتح یاب ہو گئے) تو سوائے چند لوگوں کے باقی سب لوٹ کر (اتر کر) آئے اور آکر لشکر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے حکم کی مخالفت کی اور جہاں پر تھے اس کو چھوڑ گئے، تو مشرکین کے گھڑسوار اسی جگہ سے مسلمانوں کی طرف آئے تو ایک دوسرے کے اوپر وار کی۔ ان کو التباس ہوا اسی وجہ سے مسلمانوں میں سے کافی لوگ شہید ہوئے۔" 56

اس طرح کے اختلاف کے جائز یا ناجائز ہونے کے بارے میں علامہ آلوسی فرماتے ہیں:

"ولا شك أيضا أنه حرام لما فيه من تضييع المصالح الدينية والدنيوية" 57

"اس میں بھی شک نہیں کہ یہ (اختلاف) حرام ہے اس لئے کہ اس سے دینی اور دنیاوی مصالح کا نقصان ہوتا ہے۔"

سوم: فروعی مسائل میں اختلاف:

ابہام کی صورت میں اشیاء کے حلال یا حرام وغیرہ ہونے کا اختلاف فروعی اختلاف کہلاتا ہے۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں:

"والذي نقطع به أن الإتفاق خير منه أيضا" 58

"جس چیز کو یقینی سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں بھی اختلاف سے اتفاق بہتر ہے۔"

نیز فرماتے ہیں:

"فإن قلنا : إن المصيب واحد وهو الصحيح فالحق في نفس الأمر واحد والناس كلهم مأمورون بطلبه واتفاقهم عليه مطلوب والاختلاف حينئذ منهي عنه وإن عذر المخطئ وأثيب على اجتهاده وصراف وسعه لطلب الحق" 59

"اگر ہم یہ کہیں کہ حق تک پہنچنے والا ایک ہوتا ہے اور یہی بات درست ہے۔ حقیقت میں حق ایک ہی ہوتا ہے۔ اور سب لوگوں کو اسی حق کی تلاش کا حکم دیا گیا ہے اور اسی حق پر متفق ہونا مطلوب ہے اور اس وقت اختلاف کرنا ممنوع ہے، اگرچہ غلطی کرنے والا مجتہد معذور ہوگا اور اپنے اجتہاد کی وجہ سے اور اپنی کوشش کو حق تلاش کرنے میں خرچ کر دینے کی وجہ سے مستحق اجر ہوگا۔"

علامہ ابن تیمیہ نے اس کی وضاحت کچھ یوں کی ہے:

"والمجتهد المخطئ له أجر لأن قصده الحق وطلبه بحسب وسعه وهو لا يحكم الا بدليل" 60

"جس مجتہد سے اجتہادی خطا ہو وہ اجر کا حقدار ہے اس لیے کہ اس کا ارادہ حق کا ہوتا ہے اس تک پہنچنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے اور یہ کہ دلیل کی بنیاد پر ہی وہ حکم لگاتا ہے۔"

علامہ آلوسی فروعی مسائل میں خواص کے اختلاف کے جواز کے سلسلے میں مختلف استدلالات نقل کرتے ہوئے فرماتے

ہیں:

"واستدل على عدم المنع من الاختلاف في الفروع بقوله عليه الصلاة والسلام : اختلاف أمتي رحمة" 61

"فروع کے اندر اختلاف کے منع نہ ہونے پر آپ ﷺ کے اس ارشاد سے استدلال کیا گیا ہے کہ (آپ ﷺ فرماتے ہیں) میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔"

اگرچہ لوگوں کے ہاں یہ بطور حدیث رسول کے مشہور ہوا ہے۔ لیکن محققین علماء اور محدثین نے روایتاً اور درایتاً اس کا

حدیث رسول نہ ہونا ثابت کیا ہے۔ چنانچہ اس بارے میں علامہ آلوسی نے امام سبکی کا اعتراض نقل کیا ہے:

"أن اختلاف أمتي رحمة ليس معروفا عند المحدثين ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع ولا أظن له أصلا إلا أن يكون من كلام الناس بأن يكون أحد قال اختلاف الأمة رحمة فأخذه بعضهم فظنه حديثا فجعله من كلام النبوة وما زلت أعتقد أن هذا الحديث لا أصل له. واستدل على بطلانه بالآيات والأحاديث الصحيحة الناطقة بأن الرحمة تقتضي عدم الاختلاف" 62

"یہ حدیث محدثین کے نزدیک معروف نہیں ہے۔ اور مجھے اس کی سند صحیح معلوم نہ ہو سکی (بلکہ) ضعیف سند اور موضوع (من گھڑت) سند بھی معلوم نہ ہو سکی۔ میرے خیال میں اس کی کوئی اصل

دین کامل اور اختلاف: روح المعانی کی روشنی میں ایک تحقیقی جائزہ

نہیں ہے۔ ہاں یہ عام لوگوں کا کوئی کلام ہو سکتا ہے۔ یعنی کسی نے کہا ہوگا کہ امت کا اختلاف رحمت ہے۔ بعض نے اس کو لے کر حدیث سمجھا ہوگا۔ اور کلام نبوت میں سے قرار دیا ہوگا۔ میرا یہ عقیدہ رہا ہے کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں۔"

اس کا جواب امام سیوطی نے الجامع الصغیر میں یہ دیا ہے:

"ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا"⁶³

"شاید بعض حفاظ حدیث کی کتب میں اسے سنداً ذکر کیا گیا ہو لیکن ہم تک نہ پہنچ سکی ہو۔"
لیکن شیخ البانی اس کے جواب میں لکھتے ہیں:

" وهذا بعيد عندي، إذ يلزم منه أنه ضاع على الأمة بعض أحاديثه ﷺ، وهذا مما لا يليق بمسلم اعتقاده"⁶⁴

"یہ میرے نزدیک بعید ہے۔ اس لئے کہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ امت سے کچھ احادیث رسول اللہ ﷺ ضائع ہو گئی ہیں حالانکہ یہ عقیدہ نہ لائق اعتبار ہے، نہ ہی مسلم کہ کچھ احادیث ضائع ہو گئی ہیں۔"
علامہ آلوسی امام سبکی کی تحقیق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"واستدل على بطلانه بالأيات والأحاديث الصحيحة الناطقة بأن الرحمة تقتضي عدم الاختلاف"⁶⁵

"امام سبکی نے اس کے بطلان پر آیات اور احادیث صحیحہ سے استدلال کیا جس سے واضح ہوتا ہے کہ رحمت تو اختلاف کا تقاضا نہیں کرتی۔"

علماء و محدثین کی تحقیق سے واضح ہے کہ متون حدیث میں ایسی کوئی مستند حدیث موجود نہیں ہے جس میں امت کے عام افراد کا اختلاف رحمت قرار دیا گیا ہو۔ البتہ ایسی احادیث اقوال و آثار موجود ہیں جس میں خواص کے فروع کا اختلاف رحمت قرار دیا گیا ہو۔ جن کو علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں نقل کئے ہیں، چنانچہ ارشاد نبوی ہیں: کہ جب بھی تمہیں کتاب اللہ سے جو کچھ دیا جائے (حکم کیا جائے) تو اس پر عمل کیا کرو۔ اس پر عمل نہ کرنے میں کسی کو کوئی عذر نہیں ہے اگر کوئی (صریح) حکم کتاب میں (تمہیں معلوم) نہ ہو تو میری سنت میں جو (حکم) جاری ہوگا (اس پر عمل کیا کرو) اگر میری سنت میں معلوم نہ ہو جائے (تو پھر) میرے اصحاب کے قول پر عمل کیا کرو۔ بلاشبہ میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کے بمنزلہ ہیں۔ میرے جس صحابی کے قول پر تم عمل کرو گے تو راہ راست پاؤ گے۔ اور میرے صحابہ کا اختلاف رحمت ہے⁶⁶۔

اسی طرح امام بیہقی نے قاسم بن محمد سے روایت نقل کی ہے:

"اختلاف أصحاب محمد رحمة لعباد الله تعالى"⁶⁷

"صحابہ کرام کا اختلاف باقی لوگوں کے لئے رحمت ہے۔"

طبقات میں ابن سعد نے ان الفاظ کے ساتھ روایت نقل کی ہے

"كان اختلاف أصحاب محمد رحمة للناس"⁶⁸

"صحابہ کرام کا اختلاف لوگوں کے لئے رحمت تھا۔"

علامہ آلوسی ان احادیث کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"وَأَرَادَ بِهِمُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَوَاصَهُمُ الْبَالِغِينَ رَتَبَةَ الاجْتِهَادِ وَالْمَقْصُودِ بِالْخُطَابِ مِنْ دَوْحِهِمْ فَلَا إِشْكَالَ فِيهِ خِلَافًا لِمَنْ وَهَمَ ، وَالرَّوَايَاتُ عَنِ السَّلَفِ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ"⁶⁹

"اس سے آپ ﷺ کی مراد وہ مخصوص صحابہ کرام ہیں جو اجتہاد کے درجہ تک پہنچنے والے ہیں، اور (اختلاف نہ کرنے کے) خطاب سے مقصود ان کے علاوہ حضرات ہیں (جو اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتے)۔ لہذا اس میں (کسی کے لیے) کوئی اشکال باقی نہیں رہا سوائے ان لوگوں کے جو وہم کے شکار ہیں۔ اس بارے میں سلف سے بہت سی روایات مروی ہیں۔"

علامہ آلوسی اس سے صحابہ کرام یا امت کے بڑے مجتہدین مراد لیتے ہیں چنانہ علامہ آلوسی فرماتے ہیں:

"أَنَّ الْمُرَادَ اخْتِلَافَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَمَنْ شَارَكَهُمْ فِي الاجْتِهَادِ كَالْمُجْتَهِدِينَ الْمُعْتَدِّ بِهَمْ مِنْ عُلَمَاءِ الدِّينِ الَّذِينَ لَيْسُوا بِمُتَّبِعِينَ وَكُونَ ذَلِكَ رَحْمَةً لضعفاء الأمة ، وَمَنْ لَيْسَ فِي دَرَجَتِهِمْ مِمَّا لَا يَنْبَغِي أَنْ يَنْتَظِحَ فِيهِ كِبْشَانٌ وَلَا يَتَنَازَعُ فِيهِ اثْنَانُ"⁷⁰

"اس اختلاف سے صحابہ کا اور ان لوگوں کا اختلاف مراد ہے جو ان کے ساتھ اجتہاد میں شریک ہیں جیسے وہ مجتہدین جن کا اجتہاد قابل اعتبار ہے جو علماء دین ہیں مبتدعین نہیں ہیں۔ جبکہ وہ لوگ جو ان کے درجہ تک نہیں پہنچ سکیں ہیں (تو ان کے لیے) مناسب نہیں ہے کہ دو مینڈھے ایک دوسرے کو اپنے سینگوں سے ماریں اور نہ ہی دو آدمی اس میں باہمی نزاع کریں۔"

اسی طرح "اختلاف العلماء رحمة"⁷¹ "علماء کا اختلاف رحمت ہے۔" اصل میں امام مالک کا قول ہے⁷² لیکن

اسے تسامحاً حدیث کہا گیا ہے۔ اس وجہ سے عوام میں بھی یہ حدیث نبوی ﷺ کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔

سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا فرمان ہمارے لیے بہترین راہبر ہے۔ یہ ایک تحریر ہے جو آپ نے حضرت ابو موسیٰ

اشعری رضی اللہ عنہ کو قضا کے متعلق یوں لکھ بھیجی تھی:

"الْفَهْمُ الْفَهْمُ فِيمَا تَخَلَّجَ فِي صَدْرِكَ بِمَا لَمْ يَبْلُغْكَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ اعْرِفِ الْأَمْثَالَ وَالْأَشْيَاءَ ، ثُمَّ قَسِ الْأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ"⁷³

"جو مسئلہ تمہیں قرآن و سنت میں نہ ملے اور آپ کو اس بارے میں شک ہو تو اس پر غور کرو اور اچھی طرح غور کرو اور اس سے مشابہ مسائل پر اسے قیاس کر لو۔"

اجتہادی اختلاف کا ظہور

عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں:

"قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْأَحْزَابِ: لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ» فَأَذْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرَدْ مِثْلَ ذَلِكَ، فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يُعْتَفَ وَاجِدًا مِنْهُمْ"⁷⁴

"نبی کریم ﷺ جب غزوہ احزاب سے واپس ہوئے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ کوئی بھی نماز عصر نہ پڑھے مگر بنی قریظہ ہی میں پڑھے۔ راستے ہی میں ان پر عصر کا وقت آگیا تو بعض نے کہا کہ ہم وہاں پہنچنے

دین کامل اور اختلاف: روح المعانی کی روشنی میں ایک تحقیقی جائزہ

سے پہلے نماز نہیں ادا نہیں کر سکتے۔ جب کہ بعض نے کہا کہ ہم نماز ادا کرتے ہیں کیونکہ نبی اکرم ﷺ کا مقصود یہ نہ تھا۔ جب نبی کریم ﷺ کے سامنے اس کا ذکر ہوا تو آپ ﷺ نے ان میں سے کسی کی بھی سرزنش نہیں کی۔"

اس پر روشنی ڈالتے ہوئے علامہ آلوسیؒ فرماتے ہیں:

"ولم يصلوا العصر لقول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا بني قريظة وقد شغلهم ما لم يكن لهم منه بد في حرهم فلما أتوا صلوا بعد العشاء فما عابهم الله تعالى بذلك في كتابه ولا عنفهم رسول الله عليه الصلاة والسلام" 75

"رسول اللہ ﷺ کی اس فرمان کی وجہ سے کہ تم نے عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے میں جا کر ہی پڑھنی ہے۔ انہوں (صحابہ کرام) نے عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ وہ امور جنگ میں مصروف رہیں۔ چنانچہ عشاء کے بعد انہوں نے آکر عصر کی نماز پڑھی تو اس پر نہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کی مذمت کی اور نہ آپ ﷺ نے ان پر کوئی سختی کی۔"

جس وقت نبی مہربان ﷺ سیدنا معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے تو فرمایا:

"كَيْفَ تُضَيُّ إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟" ، قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» ، قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ: أَجْتَهُدُ رَأْيِي، وَلَا أَلُو فَضْرَبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ» 76

"جب تمہارے پاس کوئی مقدمہ آجائے اس کا فیصلہ کیسے کرو گے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس بارے میں کوئی حکم نہ ملے؟ آپ ﷺ نے فرمایا اگر رسول اللہ کی سنت میں اس بارے میں کوئی حکم نہ ملے؟ تو آپ نے فرمایا پھر میں رائے سے اجتہاد کروں گا اس پر آپ ﷺ نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر شاباس دی اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو ایسی بات کی توفیق دی جس سے اللہ کا رسول راضی ہوا۔"

اس لئے کہ صحابہ کرام کا اختلاف فرقہ واریت کے خاتمے اور دین اسلام کی بقاء کے لئے تھا، چنانچہ جب یہود میں سے بعض نے سیدنا علیؓ سے ان کے اختلاف کے بارے میں کہا:

"مَا دَفَنْتُمْ بَنِيكُمْ حَتَّى اِخْتَلَفْتُمْ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا اِخْتَلَفْنَا عَنْهُ وَمَا اِخْتَلَفْنَا فِيهِ" 77

"تم اپنے نبی کو ابھی دفن بھی نہ کر پائے تھے کہ اختلاف میں پڑ گئے۔ تو آپ نے فرمایا ہم نے ان کی (رسالت) کے بارے میں اختلاف نہیں کیا بلکہ (بقاء) کے لئے اختلاف کیا۔"

اس وجہ سے صحابہ کرام کے اختلاف کے بارے میں امام شاطیہؒ فرماتے ہیں:

"ووجدنا أصحاب رسول الله ﷺ من بعده قد اختلفوا في أحكام الدين ولم يتفرقوا ولا صاروا شيعا" 78

"صحابہ کرام نے دین کے احکام میں اختلاف ضرور کیا ہے لیکن ان کا یہ اختلاف ان کے باہمی انزاق اور

گروہ بندی کا سبب نہیں بنا۔"

مستحسن اختلاف:

ثابت ہوا کہ وہ اختلاف جو اجتہادی ہو اور قرآن و حدیث کے متعین کردہ حدود کے اندر ہو، وہ قابل نفرت نہیں ہے بلکہ مجتہدین علماء کے تجربہ علمی کی وجہ سے وسعت اور رحمت کا باعث ہے۔ اس لیے کہ اجتہاد کی وجہ سے شرعی احکام ہر زمانے کے تقاضوں کے ساتھ موافقت اختیار کر لیتے ہیں۔ شرعی امور کے مختلف پہلوؤں میں تحقیق اور ترقی اس اختلاف کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قاضی ابن العربی فروعی مسائل کے اختلاف کے بارے میں فرماتے ہیں:

"فَأَمَّا الْإِخْتِلَافُ فِي الْقُرُوعِ فَهُوَ مِنْ مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ"⁷⁹

"فروع مسائل میں اختلاف محاسن شریعت میں شمار ہوتا ہے۔"

اس ضمن میں علامہ آلوسی نے بھی صحابہ کرام کے اختلاف کے بارے میں عمر بن عبدالعزیزؓ کا قول نقل کیا ہے:

"ما سرنی لو أن أصحاب محمد لم يختلفوا لأهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة"⁸⁰

"مجھے صحابہ کرام کے اختلاف سے خوشی ہوتی ہے وہ اگر اختلاف نہ کرتے تو (دینی مسائل) میں رخصت کی گنجائش نہ ہوتی۔"

جب عمر بن عبدالعزیزؓ کو تمام مسلمانوں کو ایک ہی مسلک پر جمع کرنے کی تجویز پیش کی گئی تو انہوں نے جواب دیا:

"ان کا اختلاف نہ کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ پھر انہوں نے تمام شہروں کو فرمان بھیجا کہ ہر قوم کے باشندے اسی کے مطابق فیصلہ کریں جن پر ان کے فقہاء متفق ہو۔"⁸¹

قاسم بن محمدؓ صحابہ کرام کے اعمال میں اختلاف کے بارے میں فرماتے ہیں:

"اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کے ساتھیوں کے اعمال میں اختلاف کی وجہ سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا۔ جب کوئی عامل صحابہ کرام میں سے کسی ایک کے عمل کے مطابق عمل کرتا ہے تو اپنے لئے کشادگی محسوس کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس سے بہتر انسان نے یہ عمل کیا تھا۔"⁸²

اجتہادی مسائل میں اختلاف کے بارے میں امام مالکؒ کا قول قابل غور ہے کہ جب ہارون الرشید نے ان سے کہا کہ

اے ابو عبد اللہ! آپ نے جتنی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں ان کی اشاعت کی آپ مجھے اجازت دیجیے۔ میں بلاد اسلامیہ میں ان کو پھیلا دیتا ہوں اور مسلمانوں کو ان پر عمل کرنے کا پابند بنا دیتا ہوں۔ تو امام مالکؒ نے فرمایا:

"امیر المؤمنین! علمائے کرام کا آپس میں اختلاف اس امت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا باعث ہے۔

پس علماء میں سے ہر ایک عالم اس مسلک کی پیروی کرتا ہے جس کی دلیل اس کے نزدیک صحیح ہو (ان میں

سے) ہر ایک ہدایت پر ہے اور ہر ایک عالم اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے۔"⁸³

اسی طرح مؤطا کے بارے میں جب ہارون الرشید نے کہا کہ وہ لوگوں کو اس پر جمع کرانا چاہتا ہے تو امام مالکؒ نے جواب

دیا:

"ایسا مت کیجیے اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھیوں کا بھی فروع میں اختلاف رہا ہے اور وہ مختلف

علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ کی تمام سنتیں وہاں پہنچ گئی ہیں۔ اس طرح

دین کامل اور اختلاف: روح المعانی کی روشنی میں ایک تحقیقی جائزہ

کرنے سے یہ صرف اختلاف نہ ہوتا بلکہ افتراق یا کوئی اور خطرناک صورت اختیار کرنے سبب بنتا۔" ⁸⁴

آراء کا ممنوع اختلاف:

اس اختلاف کے بارے میں قاضی ابن العربی فرماتے ہیں:

"الإختلاف المنهَى عَنْهُ إِنَّمَا هُوَ الْمُؤَدَى إِلَى الْفِتْنَةِ وَالْتَعَصُّبِ وَتَشْتِيبِ الْجَمَاعَةِ" ⁸⁵

"ممنوع اختلاف وہ ہے جو فتنے، تعصب اور امت مسلمہ کی جماعت میں انتشار کا سبب ہو۔"

اسی طرح علامہ آلوسی ممنوع اختلاف کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"جو ممنوع اختلاف ہے اس سے مراد وہ اختلاف ہے جس میں شارع کی طرف سے نص صریح موجود ہو یا

اس پر اجماع کیا گیا ہو۔" ⁸⁶

سفیان ثوریؒ فروعی مسائل کے اختلاف کی وجہ سے امت مسلمہ کی جماعت میں فساد اور انتشار کے خاتمے کے بارے میں

رائے دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

"إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ الَّذِي قَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ وَأَنْتَ تَرَى عَجْبَهُ فَلَا تُنْهَهُ" ⁸⁷

"جب تو کوئی شخص دیکھے جو ایسا کام کر رہا ہو جس کے جواز میں اختلاف ہو اور اس کی رائے تیری رائے کے

خلاف ہو تو اسے اس کام سے نہ روکو۔"

ایک مسئلہ کے بارے میں جب دونوں جانب دلائل موجود ہوں تو اس طرح کے مسائل میں ایک جانب سے منع کرنا

اختلاف کا سبب بنتا ہے۔ اس کی تائید امام نوویؒ کے الفاظ سے بھی ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

"الْعُلَمَاءُ إِنَّمَا يُنْكِرُونَ مَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ فِتْنَةٌ فَلَا يُنْكَرُ فِيهِ" ⁸⁸

"جس (کام) کے منکر ہونے پر ائمہ کا اجماع ہو علماء اس سے منع کرتے ہیں اور جس میں اختلاف ہو اس

سے روکنا جائز نہیں ہے۔"

نتائج بحث:

مذکورہ بحث سے معلوم ہوا کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد ﷺ تک تمام ادیان کے اصول ایک رہے ہیں

البتہ وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق ذیلی احکام جزوی تغیر کیا گیا ہے۔

• اصول دین میں اختلاف قطعاً اور یکسر ممنوع ہے۔

• فروعی مسائل میں اختلاف کی گنجائش ہے۔

• فروعی مسائل میں اختلاف کو شرعی قواعد و ضوابط میں رہتے ہوئے، آداب اختلاف کے ساتھ کرنے کی

اجازت ہے۔



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

حواله جات (References)

- ¹ ابن عابدين، محمد امين بن عمر، الرد المختار على الدر المختار، دار الفكر-بيروت 1992ء، 6:421، الحويني، الاثرى، ابواسحاق، محمد شريف، نهي الصبحية عن النزول بالركبة، دار الكتاب العربي-بيروت، 1988ء، 2:2
- Ibn 'Abidiyn, Muḥammad Amin bin 'Umar, *Al Durr al Mukhtār 'Ala Al Radd al Muhtār*, (Beirut: Dār al Fikr, 1992), 6:421, Al Ḥuwaynī, Muḥammad Sharīf, Nahyī al Ṣuḥbah 'An Nuzuwl bil Rakkah, (Beirut: Dār al Kitāb al 'Arabī, 1988), 2:2
- ² آلوسی، شهاب الدین محمود بن عبد اللہ الحسینی، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، تحقیق: علی عبد الباری عطیہ، دار الکتب العلمیہ بیروت، 1415ھ، 2:241
- Aluwsī, Meḥmuwd bin 'Abdullāh Al Ḥusainī, *Rūh al-Ma'ānī fī Tafṣīr-l-Qur'ānī-l-'Azīm wa Sab'u-l-Mathānī*, (Beirut: Dār al Kutub al 'Ilmiyyah, 1415), 2:241
- ³ الشاطبي، ابواسحاق، ابراهيم بن موسى، الاعتصام، المكتبة التجارية الكبرى-مصر، نداد، 2:231
- Al Shaṭībī, Abu Ishāq, Ibrahim bin Muwsa, *Al I'tiṣām*, (Egypt: Al Maktabah Al Tijāriyyah al Kubrā, 2:231)
- ⁴ السبكي، تاج الدين بن علي، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق: محمود محمد الطنجاوي، عبد الفتاح محمد الخلو، دار المعرف للنشر، بيروت، 1993ء، 8:870
- Al Subakī, Tāj al Dīn bin 'Alī, *ṭabaqāt al Shafa'iyyah al Kubrā*, (Beirut: Dār al Hajr lil Nashar, 1993), 8:870
- ⁵ روح المعانی 1: 5
- Rūh al-Ma'ānī*, 1:5
- ⁶ محمد عبد العظيم زرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، دار الفكر بيروت، 1996ء، ج 2، ص 61
- Al Zurqānī, Muḥammad 'Abdul 'Azīm, *Manahil al 'Irfān fī 'Uluwm al Qur'ān*, (Beirut: Dār al Fikr, 1996), 2:61
- ⁷ ابوالبركات نعمان بن محمود بن عبد الله، جلاء العيينين، مطبعة المدني، 1981ء، 1:58
- Abu al Barakāt, Nu'mān bin Maḥmuwd bin 'Abdullāh, *Jilā'ul 'Aynayn*, (Matba'ah al Madani, 1981), 1:58
- ⁸ بنوري، علامه سيد محمد يوسف، يتيمية البيان في شيء من علوم القرآن، مكتبة بينات، بنوري ناؤان، ص: 85
- Binnori, Sayyid Muḥammad Yuwsuf, 'Allama, *Yatīmah al Bayān fī Shay' min 'Uluwm al Qur'ān*, (Karachi: Maktabah Bayyināt, Binnori Town), p:85
- ⁹ الراغب الاصفهاني، ابوالقاسم الحسين، المفردات في غريب القرآن، دار القلم، الدار الشاميه، دمشق، 1412ھ، 1:323
- Al Raghīb al Asfahani, Abu al Qasim al Ḥusain, *Al Mufradāt fī Gharīb al Qur'ān*, (Damascus: Dār al Qalam al Dār al Shamiyyah, 1412), 1:323
- ¹⁰ بخاري، محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغیره، صحيح بخاري، كتاب تفسير، باب ماجاء الفاتحة، دار الشعب-القاهره، 1987ء
- Bukhari, Muhammad bin Isma'il, *Al Jamī' al Ṣāhiḥ*, (Cairo: Dār al Shu'ab, 1987)
- ¹¹ شيخ احمد ديدات، يهوديت، عيسائيت اور اسلام، عبد اللہ اكيڈمي آر-آر پرنٹرز-لاہور، 2010ء، ص 25
- Sheikh Aḥmād Dedāt, *Yahudiāt 'Esā'iyyat Awr Islam*, (Lahore: 'Abdullah Academy, R.R Printers, 2010), p:25
- ¹² نعماني، مولانا عبد الرشيد، لغات القرآن، دار الاشاعت كراچی، 1986ء، 1:42
- Nu'mānī, Mauwlanā 'Abdul Rasheed, *Lughāt al Qur'ān*, (Karachi: Dār al Asha'at,

1986), 1:42

¹³المجددی، محمد عمیم الاحسان، قواعد الفقہ، البرکی، الصدف پبلشرز کراچی، 1984، 1:102

Al Mujaddadi, Muhammad 'Amim al Ihsan, *Qawa'id al Fiqh*, (Karachi: Sadaf Publishers, 1984), 1:102

¹⁴المفردات فی غریب القرآن، 1:294

Al Mufradāt fī Ghariyb al Qur'ān, 1:294

¹⁵سورۃ آل عمران: 103

Surah Al 'Imrān: 103

¹⁶روح المعانی، 2:236

Rūh al-Ma'ānī, 2:236

¹⁷سورۃ الحجرات: 10

Surah Al 'Hujrāt: 10

¹⁸سورۃ النور: 31

Surah Al Nuwr: 31

¹⁹روح المعانی، 2:236

Rūh al-Ma'ānī, 2:236

²⁰روح المعانی، 2:236

Rūh al-Ma'ānī, 2:236

²¹سورۃ سبأ: 28

Surah Saba': 28

²²روح المعانی، 11:316

Rūh al-Ma'ānī, 11:316

²³روح المعانی، 11:316

Rūh al-Ma'ānī, 11:316

²⁴مسلم بن الحجاج، ابوالحسن، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل الی رسول اللہ ﷺ، کتاب المساجد، باب، حدیث: 1195، دار احیاء تراث

العربی۔ بیروت، ندارد

Muslim bin al Hajjaj, Abu al Hasan, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār Iḥya' al Turath al 'Arabi), Ḥadith #1195

²⁵سورۃ الحجر: 9

Surah al Hajar: 9

²⁶سورۃ النحل: 89

Surah al Naḥal: 89

²⁷روح المعانی، 7:451

Rūh al-Ma'ānī, 7:451

²⁸ابن ماجہ، ابو عبد اللہ، محمد بن یزید، سنن ابن ماجہ، باب اتباع سنتہ الخلفاء الراشدین المہدین، دار الکتب العلمیہ

بیروت، 2008ء، حدیث: 42

Ibn e Majah, Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibn e Majah*, (Beirut: Dār al Kutub al

'Ilmiyyah, 2008), Ḥadith # 42

²⁹ صحیح بخاری، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة، باب الحاكم اذا اجتهد فاصاب او اخطا، حدیث: 7352، احمد بن حنبل، مسند احمد، مسند المکثرین من الصحابة، مسند ابی هريرة، حدیث: 9344، صحیح مسلم، کتاب الحدود، باب بیان اجر الحاكم اذا الحاكم اذا اجتهد فاصاب او اخطا، حدیث: 1716، روح المعانی، 2:241

Bukhari, *Al Jami' al Ṣaḥiḥ*, Ḥadith # 7352, Aḥmād bin Ḥambal, *Musnad*, Ḥadith # 9344, *Ṣaḥiḥ Muslim*, Ḥadith # 1716, *Rūh al-Ma'ānī*, 2:241

³⁰ صحیح مسلم، کتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، حدیث: 412، سنن نسائي، کتاب مناسك الحج، باب وجوب الحج، حدیث: 2619 *Ṣaḥiḥ Muslim*, Ḥadith # 412, *Sunan Nasa'i*, Ḥadith # 2619

³¹ سنن ابی داود، کتاب الصلاة، باب تصويبه الصويبه الصفوف، حدیث: 664، سنن ابن ماجه، کتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب من يستحب ان يلي الامام، حدیث: 976، صحیح بخاری، کتاب الجهاد والسير، باب ما يكره من التنازع والاختلاف، حدیث: 3038 *Sunan abu Daw'ud*, Ḥadith # 664, *Sunan Ibn e Majah*, Ḥadith # 976, Bukhari, *Al Jami' al Ṣaḥiḥ*, Ḥadith # 3038

³² روح المعانی، 2:240

Rūh al-Ma'ānī, 2:240

³³ روح المعانی، 6:356

Rūh al-Ma'ānī, 6:356

³⁴ سورة هود: 118

Surah Huwd: 118

³⁵ روح المعانی، 4:357

Rūh al-Ma'ānī, 4:357

³⁶ روح المعانی، 2:240

Rūh al-Ma'ānī, 2:240

³⁷ لغات القرآن، 2:152

Lughāt al Qur'ān, 2:152

³⁸ ابن سيدة، علي بن اسماعيل، المحكم والمحيط الاعظم، دار الكتب العلمية، بيروت، 2000، 8:352

Ibn Sayyidah, 'Ali bin Isma'il, *Al Muḥkam wal Muḥīṭ al 'Aẓam*, (Beirut: Dār al Kutub al 'Ilmiyyah, 2000), 8:352

³⁹ المفردات في غريب القرآن، ص: 19

Al Mufradāt fī Gharīb al Qur'ān, 19

⁴⁰ سورة شوري: 13

Surah al Shura': 13

⁴¹ روح المعانی، 13:22

Rūh al-Ma'ānī, 13:22

⁴² صحیح بخاری، کتاب الانبياء، باب، حدیث: 3259

Ṣaḥiḥ Bukhārī, Ḥadith # 3259

⁴³ العسقلاني، احمد بن علي بن حجر، فتح الباري، دار المعرفة بيروت، 1379هـ، حدیث: 3258

Al 'Asqalani, Aḥmād bin 'Ali bin Ḥajar, *Fatḥ al Barī*, (Beirut: Dār al Ma'rifah, 1379),

Ḥadith # 3258

44 سورة آل عمران: 105

Surah Al 'Imrān: 105

45 روح المعانی، 2:239

Rūh al-Ma'ānī, 2:239

46 احمد بن حنبل، مسند احمد، مسند المكثرين من الصحابة، مسند انس بن مالك، حديث: 12479

Aḥmād bin Ḥambal, *Musnad*, Ḥadith # 12479

47 سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب افتراق الامم، حديث: 3992

Sunan Ibn e Majah, Ḥadith # 3992

48 روح المعانی، 3:63

Rūh al-Ma'ānī, 3:63

49 سورة النساء: 83

Surah al Nisa': 83

50 روح المعانی، 3:46

Rūh al-Ma'ānī, 3:46

51 روح المعانی، 3:46

Rūh al-Ma'ānī, 3:64

52 صحیح مسلم، کتاب الامارة، باب وجوب طاعة المرء في غير معصية، حديث: 4868

Ṣaḥīḥ Muslim, Ḥadith # 4868

53 روح المعانی، 3:64

Rūh al-Ma'ānī, 3:64

54 روح المعانی، 3:46

Rūh al-Ma'ānī, 3:46

55 سنن ابی داؤد، کتاب الصلاة، باب تصویبة الصویبة الصفوف، حديث: 664، سنن ابن ماجه، کتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب من يستحب

ان یلی الامام، حديث: 976

Sunan abu Daw'ud, Ḥadith # 664, *Sunan Ibn e Majah*, Ḥadith # 976

56 روح المعانی، 3:64

Rūh al-Ma'ānī, 3:64

57 روح المعانی، 2:240

Rūh al-Ma'ānī, 2:240

58 روح المعانی، 2:240

Rūh al-Ma'ānī, 2:240

59 روح المعانی، 2:241

Rūh al-Ma'ānī, 2:241

60 الحرانی، احمد بن عبد الحليم بن تيمية مجموع الفتاوى، مكتبة ابن تيمية، 2005ء، 20:30

Al Ḥarranī, Aḥmād Bin 'Abul Ḥalīm bin Taymiyyah, *Majmu' al Fatawa*, (Maktabah Ibn Taymiyyah, 2005), 20:30

⁶¹ روح المعاني، 2:240.

Rūh al-Ma'ānī, 2:240

⁶² روح المعاني، 2:240.

Rūh al-Ma'ānī, 2:240

⁶³ السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين، الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع، دار الفكر، بيروت، 2003ء، 1:54.
Al Sayuwti, 'Abdul Raḥmān bin Abi Bakar, *Al Faṭḥ al Kabīr fī Dham al Ziyadah ila Al Jami'*, (Beirut: Dār I Fikr, 1423/2003), 1:54

⁶⁴ أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الباني، سلسلة الضعيفة والموضوعة، دار المعارف، الرياض، المملكة السعودية العربية، 1992ء، حديث: 54.
Al Albani, Muḥammad Naṣir al Din, *Silsilah al Dha'efah wal Mauwdhah*, (Riyadh: Dār al Ma'arif, 1992), Ḥadith # 54

⁶⁵ روح المعاني، 2:240.

Rūh al-Ma'ānī, 2:240

⁶⁶ الميمني، أحمد بن حسين بن علي، المدخل إلى السنن الكبرى، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي - الكويت، ندراد، حديث: 152.
Al Bayhaqī, Aḥmād bin Ḥusain bin 'Ali, *Al Madkhal Ila al Sunan al Kubra*, (Kuwait: Dār al Khulafa' lil Kutub al Islami), Ḥadith # 152

⁶⁷ روح المعاني، 2:240.

Rūh al-Ma'ānī, 2:240

⁶⁸ ابن سعد، محمد بن سعد، الطبقات الكبرى الجزء (5)، الطبقة: من أهل المدينة من التابعين، دار الكتب العلمية، بيروت، 1990ء، أبو نعيم أحمد بن أحمد، الإصصاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، دار الكتب العربي - بيروت، 1974ء.
Ibn Sa'ad, Muḥammad bin 'Abdullāh, *Al Tabaqat al Kubrā*, (Beirut: Dār al Kutub al 'Ilmiyyah, 1990), Volume: 5, Al Iṣṣahani, Abu Nu'aym, Aḥmād bin Aḥmād, *Ḥilyah al Aṭwilya' wa ṭabqāt al Aṣfiya'*, (Beirut: Dār al Kitāb al 'Arabi, 1349/1974)

⁶⁹ روح المعاني، 2:240.

Rūh al-Ma'ānī, 2:40

⁷⁰ روح المعاني، 2:241.

Rūh al-Ma'ānī, 2:241

⁷¹ المنطسري، محمد ثناء الله التفسير المنطسري، مكتبة الرشيدية - باكستان، 1412هـ، 2:209.
Al Maḥzari, Muḥammad Sanaullah, *Al Tafsi'r al Maḥzari*, (Pakistan: Maktabah al Rashidiyyah), 2:209

⁷² جلاء العينين، 1:209.

Jila' al 'Aynayn, 1:209

⁷³ الدرر القطني، علي بن عمر، سنن دار قطني، كتاب الاقضية والاحكام وغير ذلك، كتاب عمر الى ابي موسى، الكتب الاسلاميه لاهور، حديث: 4471.

Al Dār Quṭni, 'Ali bin 'Umar, *Sunan*, (Lahore: Al Kutub al Islamiyyah), Ḥadith # 4471

⁷⁴ صحيح بخاري، كتاب الصلوة الخوف، باب صلوة الطالب والمطلوب رابها وايماء، حديث: 936.

Ṣaḥīḥ Bukhārī, Ḥadith # 936

⁷⁵ روح المعاني، 11:173.

Rūh al-Ma'ānī, 11:173

دین کامل اور اختلاف: روح المعانی کی روشنی میں ایک تحقیقی جائزہ

- ⁷⁶ ابوداؤد، سلیمان بن اشعث، سنن ابوداؤد، کتاب الاقصیہ، باب اجتہاد الرائی فی القضاء، حدیث: 3594
Sunan Abu Daw'ud, Ḥadith # 3594
- ⁷⁷ الرازی، فخر الدین، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، دار الکتب العلمیہ۔ بیروت، 2000ء، 22:90
 Al Razi, Muḥammad bin 'Umar, *Al Tafsir Al Kabir*, (Beirut: Dār Ihya' al Turath al 'Arabi, 2000), 22:90
- ⁷⁸ الشاطبی، ابراہیم بن موسیٰ، الاعتصام، 2:231
 Al Shaṭībī, Ibrahim bin Muwsa, *Al I'tisām*, 2:231
- ⁷⁹ ابن عربی، القاضی، محمد بن عبداللہ، ابوبکر، احکام القرآن لابن العربی، بیروت، 1988ء، 2:111
 Ibn 'Arabi, Muḥammad bin 'Abdullāh, *Aḥkām al Qur'ān*, (Beirut, 1988), 2:111
- ⁸⁰ ابن بطیہ، العکبری، ابو عبداللہ، عبید اللہ بن محمد الابانہ عن شریعۃ الفرقۃ الناجیہ ومجانبة الفرق المدمومۃ، باب التحذیر من استماع کلام قوم یریدون، دارالریایۃ الرياض، 1994ء، 2:703
 Ibn Baṭāḥ, 'Ubaidullah bin Muḥammad, *Al Ibanah 'An Shari'ah al Firqah al Najiyah wa Mujanabah al Firaq al Mazmumah*, (Riyadh: Dār al Rayah, 1415/1994), 2:703
- ⁸¹ الدارمی، ابو محمد عبداللہ بن عبدالرحمن، مسند دارمی کتاب العلم، باب اختلاف الفقہاء، دار المغنی، المملکۃ السعودیہ، 2000ء، حدیث: 652، الجصاص، ابوبکر الرازی، الفصول فی الاصول، باب القول فی حکم المجتہدین واختلاف اہل العلم، وزارة الاوقاف، الکویتیہ، 1994ء، 4:310
 Al Darami, 'Abdullāh bin 'Abdul Raḥmān, *Musnad al Darami*, (Saudiyyah: Dār al Mughni, 2000), Ḥadith # 652, Al Jaṣaṣ, Abu Bakar al Razi, *Al Fuṣuṭl fil Uṣuwl*, (Kuwait: Wazarah al Auwqāf, 1994), 4:310
- ⁸² الشاطبی، الغرناطی، ابراہیم بن موسیٰ بن محمد، الموافقات، دار ابن عفان، 1997ء، 4:125
 Al Shaṭībī, Ibrahim bin Muwsa, *Al Muwafaqāt*, (Dār Ibn 'Affān, 1997), 4:125
- ⁸³ جلاء العینین، 1:209
Jila' al 'Aynayn, 1:209
- ⁸⁴ شاہ ولی اللہ، دہلوی، احمد بن عبدالرحیم، الانصاف فی بیان اسباب اختلاف، دار النفاہ، بیروت، 1404ء، 1:38
 Dehlawi, Shah Waliullah, Aḥmād bin 'Abdul Raḥim, *Al Inṣāf fi Bayan Asbab al Ikhtilāf*, (Beirut: Dār al Nafa'is, 1403), 1:38
- ⁸⁵ احکام القرآن لابن عربی، 1:382
 Ibn 'Arabi, *Aḥkām al Qur'ān*, 1:382
- ⁸⁶ روح المعانی، 2:240
Rūh al-Ma'ānī, 2:240
- ⁸⁷ الاصبہانی، ابو نعیم، احمد بن عبداللہ، حلیۃ الاولیاء وطبقات الاصفیاء
 Al Iṣbahani, Abu Nu'aym, Aḥmād bin Aḥmād, *Hilyah al Awliya' wa ṭabqāt al Aṣfiya'*
- ⁸⁸ لنووی ابوزکریا محیی الدین بن شرف، المتناج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، دار احیاء التراث العربی۔ بیروت، 1392ھ
 Al Nawawi, Abu Zakariyya, Muḥyi al Din bin Sharaf, *Al Minhāj fi Sharh Ṣaḥiḥ Muslim*, (Beirut: Dār Ihya' al Turath al 'Arabi, 1392)